

**امراض و علاج**

حکیم محمد عمران مغل بی اے\*

**نسوانیت کا دشمن لیکور یا**

آج سے نصف صدی پہلے کی زندگی اور آج کے حالات میں کوئی مماثلت نہیں رہی۔ ایسے امراض سے واسطہ پڑ چکا ہے جو کبھی سنبھالنے نہیں گئے تھے۔ لیکور یا کا مرض بھی اتنی شدت پر نہ تھا۔ آج تو لڑکی جوں ہی سنجاتی ہے، لیکور یا اس کو دبوچ لیتا ہے۔ آج اس مرض میں شدت کی وجہات ماضی سے بالکل مختلف ہیں۔ ہمارے ہاں جانوروں کا دودھ اتنا نہیں کیا جاتا ہے، جیسی امراض کی بنیاد بن چکا ہے۔

خون میں ایک مادہ جسے ایڈرنینل (Adrenaline) کہتے ہیں، کی ریزیشن ہوتی رہتی ہے۔ اس سے اختلال قلب، سوہنہ، ضم، نفخ، دردسر یا دوسرا کوئی بھی بے نام مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مقابلہ ہماری قوت تو انائی کرتی ہے، لیکن اس قوت کی بڑھوتری کے اسباب بھی ہونے چاہیے۔ ورنہ صحت کے کئی مسائل پیدا ہوں گے۔ جوانی کا احساس خیالات سے ہے، کسی مقوی غذائے نہیں اور خیالات تجھی ٹھیک ہوں گے جب اعضاً ریسمیتدرست ہوں گے۔

موٹے اناج جوار، باجرہ، جو، پنے وغیرہ کی جگہ باریک آٹے نے شوگر کا مرض پیدا کر دیا ہے۔ حلوج پوری، برگر، چیپس، پیز، مرغ مسلم، فاست فوڈ نے جو حشر برپا کر رکھا ہے، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ علامہ مشرقی نے ساری زندگی چھان بورہ کی چائے پی اور موٹے آٹے کی روٹی کھائی۔ ہمارے پڑوں میں ہنڑہ ریاست ہے جہاں کے گورے پٹے اور خوب صورت لوگوں کی صحت قابلِ رشک ہے۔ یا لوگ ہماری طرز بودو باش سے متفرج ہیں۔ بوتوں کے بند پانی یعنی کولامشروبات کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ بھرپور سردی میں نجٹھنڈی کی، مکھن اور دودھ ان کا من بھاتا کھا جا ہے۔

۱۔ گندم سات کلو، جو ۲ کلو، کالے پنے ایک کلو۔ سب کو ملا کر آٹا پولالیں اور اس کی روٹی کھایا کریں۔ لیکور یا کے علاوہ شوگر اور دیگر کئی خطرناک امراض سے ان شاء اللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بے ہودہ ناول، ننگی فٹش تصاویر اور فلمیں، مخلوط تعلیم، کھٹائی، اچار، چٹ پٹی اشیاء، گرم اور قلنی ہوئی پیزروں سے پر بہیز کریں۔

۲۔ بھنڈی کے پودے کو جڑوں سے جدا کر کے اس سے پھلیاں اتار لیں اور جڑوں کو کوٹ کر باریک کر لیں۔ ذائقہ کے لیے مناسب مقدار میں میٹھا ساتھ ملا کر صبح شام نصف تجھ چائے والا پانی کے ساتھ کھائیں۔ لیکور یا کے ساتھ جریان، احتلام، سرعت ازال بھی ان شاء اللہ ختم ہو جائیں گے۔

0333-4058503\*